



Board Secretariat

Ref:-JKB/BS/F3652/2025/160
Date: 24th October, 2025

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza 5th Floor
Plot No. C/1 G-Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E) Mumbai - 400 051
Symbol: J&KBANK

The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001
Scrip Code:532209

SUB:- NEWSPAPER NOTICES OF POSTAL BALLOT

Dear Sirs,

Further to our letter bearing number JKB/BS/F3652/2025/158 dated October 23, 2025, please be informed that in accordance with Section 110 read with the relevant rules of the Companies Act, 2013 and all the other applicable laws, the Bank has published the information in relation to dispatch of Postal Ballot Notice to Shareholders in electronic form only in the newspapers.

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper notices published in Business Standard (Mumbai Edition), The Hindu (Delhi Edition), Rising Kashmir, State Times and Aftab on 24th October, 2025.

This is for your information and appropriate dissemination.

Thanking you

Yours faithfully
For Jammu and Kashmir Bank Limited

(Mohammad Shafi Mir)
Company Secretary



JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED
(CIN: L65110JK1938SGC000048)
Registered Office: Corporate Headquarters,
M. A. Road, Srinagar - 190 001
Tel: 0194-2483775, Fax: 0194-2481928
Website: www.jkb.bank.in
Email: board.sectt@jkbmail.com

NOTICE

Pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ('Management Rules') read with the Circular Nos.14/2020, 03/2022, 11/2022, 09/2023, 09/2024 and 03/2025 dated 08th April, 2020, 05th May, 2022, 28th December 2022, 25th September, 2023, 19th September, 2024 and 22nd September, 2025 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions of the Act, rules, circulars and notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Bank has on Thursday, October 23, 2025 forwarded the Postal Ballot Notice to the Members of the Bank whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Saturday, October 18, 2025 through electronic mail to the Members whose e-mail ids are registered in the records of Depository Participants (in case of electronic shareholding) / the Bank's Registrar and Transfer Agent (in case of physical shareholding). The Bank seeks approval for the following Resolutions through Postal Ballot by voting through electronic means (e-voting) only:

S. No.	Description of Resolutions	Type of Resolution
1	Appointment of Mr. Arun Gandotra (DIN: 08907929) as an Independent Director on the Board of the Bank.	Special
2	Fixation of Remuneration of Part Time Chairman of the Bank.	Ordinary

The Postal Ballot Notice has been communicated to the Stock Exchanges (National Stock Exchange of India Limited & The BSE Limited) and is also placed on the website of the Bank www.jkb.bank.in.

The Bank has appointed Mr. Arshad Hussain Mir (Membership No.: FCA: 521477), Practicing Chartered Accountant, to act as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner.

In view of the aforementioned MCA circulars, the Bank seeks approval for the resolutions as contained in the Postal Ballot Notice by voting through electronic means (e-voting) only. The Bank has provided the facility of e-voting to its Members and has engaged the services of M/s National Securities Depository Limited for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. Members are requested to note that e-voting commences at 0900 Hours IST on Saturday, October 25, 2025 and ends at 1700 Hours IST on Sunday, November 23, 2025. The detailed instructions regarding e-voting having been provided in the Postal Ballot Notice.

In case of any queries, you may reach to:

- NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at Toll Free No 1800 102 0990 and 1800 22 4430 (for shareholders with NSDL as depository).
- CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at 022-62343625, 022-62343626, 022-62343259 (for shareholders with CDSL as depository), or

Members requiring any clarification on e-voting may also contact Mr. Mohammad Shafi Mir, Company Secretary at sharedeptt_gc@jkbmail.com or at Telephone No. +91 194248 3775.

Shareholders holding shares in physical form and who have not updated their email addresses with the Bank are requested to update their email addresses by sending the duly filled in form ISR-1 available on the Banks website at <https://jkb.bank.in/Investor/shareholder-information> and also on the website of the RTA at <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx>. Duly filled up form ISR-1 alongwith the requisite documents are required to be sent to RTA M/s KFin Technologies Limited, Unit: Jammu and Kashmir Bank Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032, Telangana – India. Shareholders holding shares in dematerialised form can contact the Depository Participant for the same.

The result of Postal Ballot shall be declared by or before Tuesday, November 25, 2025, same will be communicated to the Stock Exchanges and would also be uploaded on the Bank's website at www.jkb.bank.in and on the website of e-voting agency – National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

By order of the Board
Jammu and Kashmir Bank Limited

Sd/-
(Mohammad Shafi Mir)
Company Secretary

Place: Srinagar
Dated: October 23, 2025

نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2013 کی دفعہ 108 اور 110 کے تحت اور کمپنیز (میتنگس اینڈ ممبر شپ) روڈ 2014 کے رول 20 اور رول 22 (بشمول ترامیم) اور وزارت کارپوریٹ امور (MCA) کی سرکلر نمبر 14/2020-03/2022، 11/2022-03/2023، 09/2024-09/2023، 03/2025 اور 08 اپریل 2020، 5 مئی 2022، 28 ستمبر 2022، 25 ستمبر 2023، 19 ستمبر 2024 اور 22 ستمبر 2025 کے ساتھ، نیز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سنگ) آئیٹیکسٹیز اینڈ سیکورٹیز ریگولیشنز (ریگولیشنز) 2015 کی ریگولیشن 44 اور دیگر قابل اطلاق ضوابط کے مطابق، بینک نے جمعرات، 23 اکتوبر 2025 کو پوسٹل بیلٹ نوٹس ان ممبران کو بھیج دیا ہے جن کے نام بینک کے رجسٹر آف ممبرز یا سٹیشنل اوٹرز کی فہرست میں ہفتہ 18 اکتوبر 2025 تک درج ہیں۔

نوٹس ان ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ای میل پتے پر بھیجی گئی ہے جن کے ای میل ڈیٹا بازاری پیرامیٹرس (ایلیکٹرانک شیئر ہولڈنگ کے لیے) یا بینک کے رجسٹر اریڈز ٹرانسفر ایجنٹ (فزیبل شیئر ہولڈنگ کے لیے) کے ریکارڈ میں درج ہیں۔ بینک مندرجہ ذیل قراردادوں کی منظوری صرف الیکٹرانک ووٹنگ (E-Voting) کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے:

نمبر	قرارداد کی تفصیل	نوعیت
1	جناب اردن گندوترا (DIN: 08907929) کو بینک کے بورڈ پر بطور خود مختار ڈائریکٹر مقرر کرنا۔	خصوصی
2	بینک کے چارٹ نامہ پیپر میں کی تصحیحات۔	عمومی

یہ پوسٹل بیلٹ نوٹس اسٹاک ایکسچینجز (نیشنل اسٹاک ایکسچینج آف انڈیا لمیٹڈ اور بی ایس ای لمیٹڈ) کو بھی بھیج دی گئی ہے اور بینک کی ویب سائٹ www.jkb.bank.in پر بھی دستیاب ہے۔

بینک نے جناب ارشد حسین میر (ممبر شپ نمبر: FCA: 521477) پر پبلکسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کو بطور اسکر وٹناؤز مقرر کیا ہے تاکہ پوسٹل بیلٹ کے عمل کو متصفانہ اور شفاف طریقے سے انجام دیا جاسکے۔

MCA کے مذکورہ سرکلر کے تحت، بینک صرف ای ووٹنگ کے ذریعے قراردادوں کی منظوری حاصل کرے گا۔ ای ووٹنگ کی سہولت ممبران کے لیے M/s National Securities Depository Limited (NSDL) کے ذریعے فراہم کی گئی ہے۔

ای ووٹنگ کا عمل ہفتہ 25 اکتوبر 2025 کو صبح 9:00 بجے شروع ہو کر اتوار، 23 نومبر 2025 کو شام 5:00 بجے ختم ہوگا۔ تفصیلی ہدایات پوسٹل بیلٹ نوٹس میں دی گئی ہیں۔ کسی بھی استفسار کی صورت میں رابطہ کریں: NSDL ہیلپ ڈیسک: evoting@nsdl.co.in یا ٹول فری نمبر 1800 102 0990/1800-22-4430 CDSL ہیلپ ڈیسک: helpdesk.evoting@cdslindia.com یا 022 6234 3625، 022 62343626، 022 62343259۔

مزید وضاحت کے لیے آپ مسٹر محمد شفیع میر، کمپنی سیکریٹری سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں:

ای میل: sharedeptt_gc@jkbmail.com، ٹیلی فون: 01942483775

فزیبل فارم میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنی ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ نہیں کی ہے، انہیں بینک کی ویب سائٹ

<https://jkb.bank.in/Investor/shareholder-information> پر RTA کی ویب سائٹ

پر <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx> سے فارم 1-ISR ڈاؤن لوڈ کر کے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ RTA کے پتے پر بھیجنا ہوگا:

KFin Technologies Limited, Unit: Jammu and Kashmir Bank Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500032, Telangana, India

ڈی ممبر یا رزڈ حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز اس مقصد کے لیے اپنے متعلقہ ڈیٹا بازاری پیرامیٹرس سے رابطہ کریں۔

پوسٹل بیلٹ کے نتائج منگل، 25 نومبر 2025 تک ظاہر کیے جائیں گے، جو اسٹاک ایکسچینجز کو بھیجے جائیں گے اور بینک کی ویب سائٹ www.jkb.bank.in اور ای ووٹنگ ایجنسی NSDL کی ویب سائٹ www.evoting.nsdl.com پر بھی شائع ہوں گے۔

بورڈ کے حکم سے

جموں و کشمیر بینک لمیٹڈ

دستخط شدہ:

(محمد شفیع میر)

کمپنی سیکریٹری

مقام: سرینگر

تاریخ: 23 اکتوبر 2025